



## و ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کوئی نیک بند (یا یہ فرمایا کہ) نیک آدمی مر جاتا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم سے ایک گرجا کا ذکر کیا، جس کو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا اور اس کا نام ماریہ تھا اس میں جو تصویریں دیکھی تھیں وہ بیان کیں اس پر رسول اللہ نے فرمایا: "و ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کوئی نیک بند (یا یہ فرمایا کہ) نیک آدمی مر جاتا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا ڈالتے" و لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہیں" [صحیح] [متفق علیہ]

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے ذکر کیا کہ جب وہ حبشہ میں تھیں، تو انہوں نے وہاں ماریہ نام کا ایک گرجا گھر دیکھا تھا، جس میں بت سی تصویریں اور نقش و نگار تھے۔ دراصل ان کو ان باتوں پر تعجب نہ رہا تھا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ان تصویروں کو گرجا گھروں میں رکھ دیا۔ اسباب بتائے آپ نے کہ: تم جن لوگوں کا ذکر کر رہی ہو، جب ان کے سماج کا کوئی صالح بند مر جاتا، تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا کر اس میں نماز پڑھتے اور اس کے اندر ان کی تصویریں بنا ڈالتے آپ نے بتایا کہ اس طرح کا کام کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں سب سے بری مخلوق ہے کیوں کہ اس کے اس کام سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/10887>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

